

35. Giyoto man na sabap sa Mata-an! A sukano na biyaloi niyo so manga Ayat o Allah a Kasangan, go Miyalimpang kano o Kaoyagoyag ko Doniya: na sa Alongan naya na di siran ro-o Pamaka-awa-an, go disiran Pakaphan-gunin sa Rila.

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَخْذَنَّهُمْ إِذْ أَيَّتُ اللَّهُ هُنُّوا وَغَرَّتُكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِذَا يُؤْمِنُونَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْبِطُونَ

٢٥

36. na ruk o Allah so Podi, a Kadnan o manga Langit go Kadnan o Lopa, -A kadnan o manga ka-adun!

فِيلَهُ الْحَمْدُ لِرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ
رَبِّ الْعَالَمَيْنَ

٢٦

37. go Ruk Iyan so Kabusaran ko manga Langit a go so Lopa: Go Sukaniyan so Mabagur, a Maongangun!

وَلَهُ الْكَبِيرَيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٢٧

Surah Al-Ahqaf-46

Si-ko ngaran o Allah, a Masa-linggagao, a Makalimo-on.

1. Ha Min. So Allah i Mataoko paka-a antapan Niyan non.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمٰ

2. Initoron so Kitab a pho-on ko Allah, a Mabagur, a Maongangun.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

3. Da-ko Kiya-adun Nami ko manga Langit a go so Lopa go so nganin a pagulutan a dowa nan inonta na si-i ko bunar, go so talilik a miyapunto; na so Miyaman-gongkir na so piyaki-iktiyaran kirana tatalikhodan nirana.

مَآخِقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا لِحَقٍّ وَأَجْلٌ مُسْمَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
عَمَّا أُنذِرُوا وَأَمْعَرُضُونَ

٢٨

4. Tharowangka (Ya Muham-mad): Aiguda iyo ko puphanongga-nowin niyo a salakao ko Allah? Paki-ilain niyo Rakun o antona-a i Miya-adun niran ko Lopa, ba-adun a minitompok iran ko manga Langit? Witi Ako niyo sa Kitab a miy-ona an naya, o di na so malalamba ko Kata-o, o sukano i manga bunar!

5. Na ba-dun a tao a makalawan a dadag ko tao a puphanonggan-win niyan a salakao ko Allah, so da-a khisumbag iyan non sa taman ko Alongan a Qiyamah, go siran na so panongganoi ran na da-a mulung iran non?

6. Go amai ka limodun so manga Manosiya na mabaloi siran a manga ridowai ran, go mabaloi siran ko Kapushimba-a kirana Ongkirun niran!

7. Na igira-a Puphangadi-an kirana so manga Ayat Ami a manga rrayag, na Tharo-on o siran a Miyamangongkir, ko bunar ko kiyapakaoma niyan kirana: A giyaya na balik mata, a mapayag!

8. Kuna, ka gi-i ran Tharo-on: A pimba-as Iyan naya. Tharowangka: A o pimba-as Akun naya na da-a mipa-ar iyo Rakun ko (siksa) o Allah a maito bo. Sukaniyan i Mata-o ko Puphamurakun niyo. Miyakatarotop Sukaniyan a saksi ko lut Akun a go sukano; go Sukaniyan so Manapi, a Makalimo-on.

فُلَّ أَرْءَيْتُمْ مَا نَدَعُونَ كِنْ دُونَ اللَّهِ أَرْوَفِ
مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شَرِكُونَ
الْمُسْنَوَاتِ أَثْنَوْنِ بِكِتَبٍ مِنْ قَبْلِ
هَذَا أَوْ أَنْدَرَ قَرْبَتِ عَلَيْنَا كُنْتُمْ
صَدِيقِنَ ﴿١﴾

وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ مَنْ
لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
يُبَادِهِمْ كُفَّارِنَ ﴿٣﴾

وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْنُنَا بَيْنَتِي قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَلَهُحُقْ لِمَاجَاهُمْ هَذَا
سِحْرُ مُبِينٌ ﴿٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَا فَلَمْ يَأْفِرْنَا فَلَا
تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ
بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا إِيَّنِي
وَيَنْكِمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

9. Tharowangka (Ya Muham-mad): A kuna a ba Ako mibibida ko manga Sogo, go di Ko katawan i ikhidiya Rakun a go sukano. Da-a Pagonotan Ko inonta so Iphagila-ham Rakun, go Sakun na matag Phamaka-iktiyar, a Mapayag.

10. Tharowangka: Aiguda iyo amai ka aya butad iyan na pho-on ko Hadapan o Allah, a inongkir iyo Sukaniyan, go adun a mishaksi a saksi a pud ko manga Moriyatao o Israil ko lagid iyan, na Miyara-tiyaya, na mimaratabat kano. Mata-an! A so Allah na di Niyan punggonana-on so pagtao a manga darowaka.

11. Na Pitharo o siran a Miya-mangongkir ko siran a Miyamara-tiyaya: O adun a kapiya niyan na di kami niyo ron kaona-an. na gowani a da iran paratiyaya a Sukaniyan, na Putharo-on nirana: A giya i na kabokhag, a andang!

12. Na si-i ko ona-an niyan so Kitab o Musa, a ladiyawan, go Limo: Na giyaya na Kitab a to-miyanto, a basa Arab, ka a niyan mapaka-iktiyar so Mindadarowaka, go Tohol a mapiya ko miphipiaya-piya.

13. Mata-an! A so siran a Pitharo iran: A aya Kadnan nami na so Allah, oriyen niyan na miyontol siran, na da-a Pangandam iran, go

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَامِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي
مَا يَفْعُلُ بِي وَلَا يَكُونُ أَنْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى
إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّهَمِّينَ ﴿١﴾

قُلْ أَرَمْ يَشْدِينَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ
بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ
مِثْلِهِ فَعَانَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِيْمِ ﴿٢﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ وَلَا ذَمَّمُ
يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا
إِنْكُ قَدِيمٌ ﴿٣﴾

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً
وَهَذَا كَتَبْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرِبِيًّا
لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى
لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَقْمُوْفَلًا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِحَزْرَوْتَ ﴿٥﴾

di siran makamboko (ko Alongan a Maori);

14. Siran man i khimangaruk ko Sorga, makakakal siran non: Balas sabap ko pinggolaola iran.

15. na piyanginsana Ami ko Manosiya so (Kaphiyapiya i ko) mbala a lokus iyan sa samporna a kaphiyapiya: Ini kaogat sukanian i Ina iyan sa marugun, go inimbawata iyan sa marugun. Na so kiyawidi niyan non, go so kiyapakagunuka-on somoso na tulo polo Olan. Taman sa igira-a minisampai ko kakhasad iyan go i sampai sa pat polo ragon, na Tharo-on niyan: Kadnan ko! Ilahamun Ka rakun so kapakapanalamat Akun ko Limo o Ka, a so ini Pangalimo o Ka rakun, go so mbala a lokus akun, go so Kapakapagamal Akun sa mapiya a Masowat Ka on, go Tanorangka Rakun so manga Moriyatao Akun; Mata-an! A Sakun na mithaabat Ako Ruka, go Mata-an! A Sakun na pud ko Mimbabayorantang (Ruka).

16. Siran man so Tharima-an Ami kirin so mapiya ko pinggolao-la iran, go Punapin Ami so manga karata-an nirin, a pud ko khimangaruk ko Sorga; diyandi a bunar a so ini diyandi kirin.

17. Na so Mitharo ko mbala a lokus iyan: A marshik a ruk iyo! Ino

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءٌ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



وَصَبَّيْنَا لِلنَّاسِ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضْعَتْهُ كَرْهًا وَحَمَلَهُ
وَفَصَلَهُ اللَّذُونَ شَهْرًا حَقِّيْ إِذَا بَلَغُ
أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ
أَرْزَعَنِيْ أَنَّ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ
عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلَحًا
تَرَضَهُ وَأَصْلَحَ لِيْ فِي دُرْيَقَةٍ إِلَيْ
بَنْتِ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ



أُولَئِكَ الَّذِينَ تَنْبَغِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا وَنَثْجَارُ زُعْنَ سَيْئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِيْ كَانُوا
يُوعَدُونَ



وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدِيهِ أَفِ لَكُمَا

niyo rakun puphangangalukun i ka khaoyag akun (sharoman) a Sabunar a miya-ipos so miyagapidapid a manga pagtao ko miya-onna angko? Giya dowa oto na makapuphanguni siran sa tabang ko Allah (di-i ran Matharo a:) dowan dowan ka! Paratiyaya ka! Mata-an! A so diyandi o Allah na Bunar. na Tharo-on niyan: A da ko ungkai inonta na manga kabokhag o miyanga o ona!

أَعْدَّنَا أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ وَيَلْكَمُونَ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْأَسْطَرِ
وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطَرٌ
الْأَوَّلَيْنَ ﴿١٧﴾

18. Siran man so piyamadayan siran o Katharo a (siksa) rakhus o manga pagtao a andang a miya-ipos ko miya-onna-an nirana pud ko manga Jinn a go so manga Manossiya; Mata-an! A siran na miyabalo siran a manga logi.

19. Na adun a ruk o omanniisa a manga Daradat pho-on ko pinggalubuk iran; go kagiya a ithoman Niyana kiran sa tarotop so manga galubuk iran, a siran na di siran khasalimbotan.

20. Na si-i ko Alongan a kaphaganaga ko siran a Miyamangongkir ko Apoi (na Tharo-on kiran a:) Ini pos iyo so manga pipiya niyo ko Kaoyagoyag iyo sa doniya, go siyawitan niyo to; na sa Alongan na-i na imbalal rukano so siksa a kahinan sabap ko Kiyapanakabor iyo ko Lopa sa di ontol, go sabap ko kiapanongklid iyo.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
أُمُّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ
إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ ﴿١٨﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِّتُهُمْ
أَعْمَلَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَيَوْمَ يُعرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبُتْ
طَبَيْبَتُكُمْ فِي حَيَاةِكُمُ الْأُدُنُّ وَأَسْتَعْنُمُ
بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقْقَةِ وَمَا كُنْتُمْ
نَفْسُوْنَ ﴿٢٠﴾

21. Na Aloyang ka so (Hud a) pagari o (Moriyataao) Ad; gowani na piyaka-iktiyar iyan so pagtao niyan si-i ko mimbotoboto a ipamuthad, - na Sabunar a miyaipos so miyama-ka-iktiyar ko ona-an niyan go so oriyan niyan- (sa Pitharo Iyan a:) Da-a Pushowasowata niyo inonta so Allah. Mata-an! A Sakun na ikhaluk akun sukano ko siksa ko Alongan a lubi a mala.

22. Pitharo iran: Ba aya Kiyapaka-omangka rukami na kagiya a phakitalikhodan ka Rukami so manga Katohanhan nami? Na pakadansalangka rukami so ipuphangangaluk ka Rukami o Suka na pud ko manga bunar!

23. Pitaro Iyan: A so katawi ron na si-i bo ko Allah; na ipushampai Akun rukano so ini Sogo rakun noto, Na ogaid na Sakun na pukhailai Yakun sukano a pagtao a da-a manga mulung iyo!

24. Na kagiya a mailai ran noto a gabon a mabalawag, a papantu-kun niyan so manga balintad iran, na Pitharo iran: A giyangkaya a gabon a mabalawag na pagoran-an tano niyan! Kuna, ka sukanian so piyalokalokan niyo to!- Ndo a kadadaluman sa siksa a mal-ipodus!

25. A phowalasun niyan so langowan taman sabap sa Sogowan o kadnan Niyan! Na kiyapita-an siran

وَإِذْ كُنَّا حَادِيْدِيْنَ أَنَّدَرَ قَوْمَهُ
بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ
يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا نَعْبُدُو إِلَّا اللَّهُ
إِنِّي أَخَافُ عَيْنَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

قَالُوا أَجِئْنَا لِنَا فِكَارًا عَنْ إِلَهِنَا فَأَنَا
بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ

قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ بِعِنْدِ اللَّهِ وَأَتَلْعَكُمْ مَا
أَنْسَلْتُ يَهُ وَلَكِنِّي أَرْكَلُ قَوْمًا
بِجَهَلِهِمْ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِيلًا أَوْ دَيْنَهُمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطَرٌ بَلْ هُوَ مَا
أَسْعَجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا
لَا يُرَى إِلَّا مَسْكُونُهُمْ كَذَلِكَ بَخْرِي

الْقَوْمَ الْمُعْجَرِمِينَ

a da-a khailai a rowar ko manga darpa iran! Lagidaya man a kambalasi Ami ko pagtao a manga baradosa!

26. Na Sabunsabunar a piyaki khapa-ar Ami kirian so da Ami rukano to Pakikhapa-arun, go singgayan Ami siran sa kanug, go manga kailai, go manga kaguda; na da kirian makanggai a gona so kanug iran, go so manga kailai ran, go so manga kaguda iran, sa maito bo, kagiya siyangka iran so manga Ayat o Allah; na kiyatangkalan siran o piyamagurugan niran noto (a siksa)!

27. Na Sabunsabunar a bininasa Mi so makaliliyot rukano a manga Ingud, go phikhasokasoi Ami magosai so manga Ayat, ka-an siran makambalingan (ko ontol).

28. Na ino siran da katabangi o siran a kinowa iran a salakao ko Allah a puphangampitun a manga Katohanan? Kuna, ka mini Gaib siran kirian: na giyoto man so kabokhag iran, go so ini pangangkob iran (ko Allah).

29. Na gowani na piyakasangor Ami Ruka so phipira katao ko manga Jinn, a phamakinugun niran so Qur-an: Na kagiya a makadarpa siran non, na Pitharo iran: Rurunuk kano! na kagiya a mapasad, na mimbalinan siran ko pagtao iran, a phphamakaiktiyar siran.

وَلَقَدْ مَكَثُوكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَثَكُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَعَاءً وَبَصَرًا وَأَفْيَادَةً فَمَا
أَغْنَى عَنْهُمْ سَعْيُهُمْ وَلَا أَنْصَرْهُمْ وَلَا
أَفْعَدْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا كَانُوا يَسْعَدُونَ
إِنَّا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ يَعْلَمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
يَسْتَهِزُونَ

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا حَوَلَ كُمْ مِنَ الْقُرْيَى
وَصَرَفَنَا الْأَيَّلَاتِ لِعَلَمَهُمْ يَرْجِعُونَ

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ أَخْذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ قُرْبَانَاهُمْ بِلْ ضَلَّوْا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا
يَفْرُونَ

وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ
يَسْتَمْعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوا أَنْصَوْتُمْ لَيْقَنِي وَلَوْلَى إِلَى قَوْمِهِمْ
مُنْذِرِينَ

30. Pitharo iran: Hai pagtao Ami! Mata-an! A Sukami na adun a miyanug Ami a Kitab a Initoron ko oriyan o Musa, a to matanto ko miya-onan niyan: A Phakatoro ko bunar go si-i ko okit a maka-o ontol.

31. Hai pagtao Ami! Tarima a niyo so pakapuphanolonun o Allah, go Paratiyaya-a niyo Sukaniyan: Ka Napiyan kano Niyan ko manga dosa niyo, go lupasun kano Niyan ko siksa a malipudus.

32. Na sa dun sa di tomarima ko Pakapuphanolonun o Allah, na di makapalagoi si-ko Lopa, go da-a mambagiyen niyan a salakao ko Allah a manga Panarigan. Siran man i matatago ko kadadag, a mapayag.

33. Ba iran ndi katawi a Mata-an! A so Allah, a so Miyadun Ko manga Langit a go so Lopa, go da Dokawi ko Kiya-aduna Niyan kir-an, na Gaos Iyan so Kapagoyaga Niyan ko miyamatai? Owai, mata-an! A Sukaniyan si-i ko langowan taman na Gaos Iyan.

34. Na si-i ko Alongan a kaphaganaga ko siran a Miyamangongkir ko Apoi, (na Tharo-on kirana:) Ba ini di bunar? Tharo-on nirana: Owai, Ibut ko Kadnan nami (ka bunar dun). Tharo-on Niyan: na ta-ami niyo so siksa sabap ko Kiya-ongkir iyo!

قَالُوا يَنْقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزَلَ
مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ
مُسْتَقِيمٍ

يَنْقُومُنَا أَجِبُوًا دَاعِيَ اللَّهَ وَاءِ ابْنُوا يَهِ
يَغْفِرُ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبُكُمْ وَيُجْزِي
مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهَ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِي
الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءٌ
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

أَوْلَئِرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِي بِخَلْقِهِنَّ يَقْدِرُ عَلَىَّ
أَنْ يُحْكِمَ الْمَوْتَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

وَيَوْمَ يُعَرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ أَلِيسَ
هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

35. Na Phantangka (Ya Muhammad) lagid o Kiyaphantang o manga babagur i tindug ko manga Sogo, go Dingka kiran phagalokaloki (so siksa). Lagid o ba Mata-an a siran ko Alongan a kasandungi ran ko idi-diyandi kiran na da-a minitarug iran (ko doniya) a rowar ko isa ka oras ko kadaondao. (Giyaya na) kapamakasampai: na ba-adun a mbinasa-an a rowar ko pagtao a manga songklid?

Surah Muhammad-47

Si-i ko ngaran o Allah, a Masinggagao, a Makalimo-on.


1. So Miyamangongkir go miyangalang siran ko lalan ko Allah, na inilang Iyan so manga Amal iran.

2. Na so Miyamaratiyaya go Pinggalubuk iran so manga pipiya go Piyaratiyaya iran so Initoron ko Muhammad, -a Sukaniyan so bunar a pho-on ko Kadnan niran,- na liyalas Iyan kiran so manga dosa iran go piyaka-ontol Iyan so butad iran.

3. Giyoto man na sabap sa mataan! A so Miyamangongkir na kidug iran so ribat. Na Mata-an! A so Miyamaratiyaya na kidug iran so ontol a pho-on ko Kadnan niran: Giyoto man i Kapuphayaga o Allah

فَاصْرِكُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
وَلَا تَسْعِهِمْ لَهُمْ كَمَا تَرَى يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوعَدُونَ كَمَا لَمْ يَرَلَهُمْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ
نَهَارٍ بَلْغَ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا قَوْمٌ
الْفَاسِقُونَ

٢٥



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلَلُ
أَعْنَلَهُمْ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ وَآمَنُوا
بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بِالْهُمْ

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَوْا النُّطَلَ وَأَنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا أَتَبْعَوْا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ

يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ